

برائے فوری اجراء

رہائشیوں کو سٹی کے رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کی عوامی معلوماتی نشست میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے

برامپٹن، آن (25 ستمبر 2020) – سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو بروز جمعرات، 1 اکتوبر کو شام 6:30 تا 8 بجے تک رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کی پہلی عوامی معلوماتی نشست میں شرکت کے لیے دعوت دیتا ہے۔ رہائشیوں کے پاس عملے اور مشاورتی ٹیم سے پراجیکٹ کے بارے میں مزید جاننے اور اپنی رائے فراہم کرنے کا موقع ہو گا۔

یہ نشست آن لائن ہو گی، جس کے لیے میٹنگ کے دن www.brampton.ca/riverwalk پر لائیو چلنے والا لنک دستیاب ہو گا۔

رور واک اور رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کے متعلق

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن ایٹوبیکوک کریک کے نشیبی علاقے میں واقع ہے۔ خطرات کو منتظم کرنے کے حوالے سے صوبائی پالیسیوں نے اب تک اس علاقے میں موجودہ طور پر ممکن ترقی کی قسم اور تعداد کو محدود رکھا ہے۔ رور واک سیلاب کے خطرے کو ختم کرنے اور نئی، کھلی شہری جگہ بنانے کے لیے دو حصوں پر مشتمل حل ہے، جو برامپٹن کے ڈاؤن ٹاؤن کو نئی زندگی بخشنے میں مدد دے گا اور اسے زیادہ صحت بخش، قابل استحکام اور لچکدار بنائے گا۔

رور واک اس علاقے میں ایک تبدیل شدہ ایٹوبیکوک کریک کا نظریہ رکھتا ہے، جس کے اردگرد عوامی جگہیں اور پارکس ہوں گے، جو ایٹوبیکوک کریک ویلی کوریڈور اور پیدل راستوں کے ایک جال سے جڑے ہوں گے۔ توقع کے مطابق یہ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں 3.6 ملین مربع فٹ رہائشی، کاروباری اور پرچون کی جگہ کھولے گا، جس سے 23,000 سے زائد نوکریاں پیدا ہوں گی اور GDP پر \$1.4 ارب کا اثر ہو گا۔

رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کھلی جگہ کا ایک ماسٹر پلان ہے، جو سیلاب سے بچاؤ کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے طرز عمل، وادی میں کھلی جگہ کے نظام، فعال نقل و حمل کے نیٹ ورک کے انضمام، ماحولیاتی و معاشی استحکامیت، عوامی صحت کے مسائل اور پروگراموں اور رور واک کے لیے ایک مجموعی نظریے کے نفاذ کے حوالے سے تصورات بنائے گا۔

اقتباسات

"رور واک برامپٹن کے لیے ایک انقلابی پراجیکٹ ہے، جو ہمیں ڈاؤن ٹاؤن کی توانائیوں کو زیر استعمال لانے اور ایک مستحکم، ماحول دوست شہر بنانا جاری رکھنے میں مدد دے گا۔ میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ رور واک پراجیکٹ اور رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آن لائن عوامی معلومات نشست میں شرکت کریں اور اس پرجوش قدم کے بارے میں اپنی رائے دیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"رور واک پراجیکٹ برامپٹن کے تمام رہائشیوں کے لیے اہم ہے، کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گا کہ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن مستحکم، صحت بخش اور لچکدار ہو اور یہاں رہنے، کام کرنے اور گھومنے آنے والے تمام لوگوں کے لیے پر لطف ہو۔ میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کی عوامی معلومات نشست میں حصہ لیں، مزید جانیں اور اپنی رائے فراہم کریں۔"

- پال ویسیٹیٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"رور واک پراجیکٹ برامپٹن کے لیے کئی کام کرے گا، بشمول سیلاب کا خطرہ کم کرنا، بڑھوتری لانا اور نوکریاں پیدا کرنا اور تمام لوگوں کے لطف کے لیے ڈاؤن ٹاؤن کی عوامی جگہوں کو بہتر بنانا۔ رور واک اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کی عوامی معلومات نشست رہائشیوں کو اس انقلابی پراجیکٹ کے متعلق مزید جاننے اور اس علاقے کے لیے اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کو شکل دینے کا موقع فراہم کرے گی۔"

- پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور؛ وائس چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"کمیونٹی کے ساتھ رابطہ ہمارے کام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران، عملہ رہائشیوں سے ایک ایسے طریقے سے رائے حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے، جو ان کی صحت و بہبود کو فروغ دیتا ہو۔ رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کی عوامی معلومات نشست رہائشیوں کو رور واک پراجیکٹ اور رور واک ایریا اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کے متعلق مزید جاننے اور اپنی رائے دینے کا موقع فراہم کرے گی۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca